

13 جولائی 2018

ووٹنگ ڈے میں 100 دن باقی ہیں – کیا آپ تیار ہیں؟

برامپٹن، آن - اس اختتام یافتہ پر 22 اکتوبر کو منعقد ہونے والے میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا اہم فیصلہ کرنے کے لیے برامپٹن کے ووٹ دہندگان کے پاس 100 دن باقی رہ جائیں گے۔

سٹی کلرک پیٹر فے، جو 2018 میونسپل الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں، نے کہا کہ "پیشگی ووٹنگ کے دورانیے میں توسیع کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنے کے عمل میں ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں اور 22 اکتوبر کو ووٹ دینے کے لیے ووٹرز کو ان کے وارڈ کے اندر کئی مقامات سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "میونسپل اور علاقائی سروسز مثلاً روڈ، پارک، تفریح گاہیں اور نقل و حمل کی سہولیات رہائشیوں کی روزمرہ زندگی کی اہم ضروریات ہیں۔ میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنا اپنے شہر کو مزید بہتر بنانے کا ایک اہم طریقہ ہے۔"

ووٹ ڈالنا نہایت آسان ہے - ذیل میں ووٹرز کے لیے چند مفید یادداشتیں درج کی گئی ہیں:

- ✓ **تسلی کریں کہ آیا آپ ایک اہل ووٹر ہیں**
کنیڈا کا کوئی بھی شہری جس کی عمر کم از کم 18 سال ہو اور وہ برامپٹن میں رہائش پذیر ہو (یا برامپٹن میں موجود کسی جائیداد کا مالک یا کرایہ دار ہو یا اس طرح کے کسی مالک یا کرایہ دار کا/کی شریک حیات/جیون ساتھی ہو)۔
- ✓ **اپنے وارڈ کے بارے میں جانیں**
اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کا وارڈ کون سا ہے، تو [یہاں](#) چیک کریں۔
- ✓ **اپنے وارڈ میں کسی بھی جگہ سے ووٹ دیں**
22 اکتوبر کو آپ اپنے وارڈ میں موجود کسی بھی جگہ سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ ووٹنگ کے دن کے قریب، ووٹ ڈالنے کے مقامات کے بارے میں معلومات [یہاں](#) پر دستیاب ہو گی۔
- ✓ **پیشگی ووٹنگ کی تاریخیں**
اگر آپ 22 اکتوبر کو ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو ووٹنگ کے پیشگی دنوں پر غور کریں: 2، 3، 4، 6، 9، 10، 11 اور 13 اکتوبر
- ✓ **دوسرے کی جگہ ووٹ ڈالنا**
اگر آپ برامپٹن میں ایک اہل ووٹر کے طور پر رجسٹر شدہ ہیں اور ووٹنگ والے دن یا ووٹنگ کے لیے مختص کسی بھی پیشگی دن پر اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو آپ اپنی جانب سے برامپٹن کے کسی بھی دوسرے اہل ووٹر کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ جس شخص کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہو یا ووٹر لسٹ میں ڈال دیا گیا ہو، وہ دوسرے شخص کے توسط سے بھی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ دوسرے شخص کی جگہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے معلومات، بہت جلد www.brampton.ca پر بھی دستیاب ہو گی۔
- ✓ **اپنی آئی ڈی ساتھ لائیں**
ووٹرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ہمراہ ایس کوئی آئی ڈی لے کر آئیں جس پر ان کا نام اور ووٹ ڈالنے کے لیے برامپٹن کا اہل پتہ درج ہو۔ شناخت کے لیے قابل قبول دستاویزات کے بارے میں معلومات [یہاں](#) دستیاب ہے۔

اس الیکشن میں نیا کیا ہے

اس الیکشن میں، پبل ریجنل چیئر کو عوامی ووٹ سے منتخب کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل چیئر کے امیدواروں کے نام 2018 کے بیلٹ پیپر میں موجود ہوں گے۔ [یہاں](#) سے مزید جانیں۔

2108 میونسپل الیکشن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/bramptonvotes ملاحظہ کریں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔